

1239- ضرر دینے والے جانور کے پیدا کرنے کی حکمت

سوال

ان جانوروں کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے مثلاً سانپ پگھو اور چوہے وغیرہ حالانکہ ہم انہیں کھاتے نہیں ہیں؟

پسندیدہ جواب

اس کے جواب کی دو شکیں ہیں، عام اور خاص:

عام: بے شک مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ عزوجل حکیم و عظیم ہے (اس کے سب کام حکمتوں سے پر ہیں) وہ کسی چیز کو فضول نہیں اور بے فائدہ پیدا نہیں فرماتا اور اس کے سارے افعال جو بھی صادر ہوتے ہیں وہ حکمتوں سے پر ہوتے ہیں تو اگر کسی فعل کی حکمت مخفی رہے اور اس کا علم نہ ہو سکے تو مومن کو اصل کی طرف لوٹنا چاہئے (کہ اس میں کوئی حکمت ہے لیکن اس کی سمجھ نہیں آسکی) اور اپنے رب کے بارہ میں غلط گمان نہ کرتا پھرے۔

خاص:

بے شک اس طرح کی مخلوقات پیدا کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیاء اور اس کی تدابیر اور مخلوقات میں کارِ یجری کی مضبوطی کا ظہور ہے تو باوجود ان کی کثرت کے اللہ تعالیٰ سب کو رزق فراہم کرتا ہے اور اسی طرح ان کے ساتھ آزمائش لیتا اور جسے یہ نقصان دیں انہیں اجر دیتا ہے اور جو اسے قتل کرے اس کی شجاعت و بہادری کا ظہور ہوتا ہے۔

اور اسی طرح ان کے پیدا کرنے کے ساتھ اپنے بندوں کو ایمان اور یقین کے اعتبار سے بھی آزماتا ہے تو مومن اس پر راضی اور اسے تسلیم کرتا ہے لیکن جسے شک ہو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے اور کیا ارادہ تھا؟ اور اسی طرح ایسی مخلوق جو کہ انسان سے کمتر ہے اس کے سبب انسان کی کمزوری اور مرض اور تکلیف کا عدم برداشت کا ظہور ہے۔

کسی عالم سے مکھی پیدا کرنے کی حکمت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس لئے کہ اس کے ساتھ بڑے بڑے جانوروں کی ناک کاٹی جائے اور انہیں ذلیل کیا جائے۔

اور نقصان دہ مخلوق کو پیدا کرنے سے نفع مند چیزوں کو پیدا کرنے کے عظیم احسان کا ظہور ہوتا ہے جس طرح کہ کہا گیا ہے۔ اس کی ضد (مخالفت) سے چیز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔

پھر میڈیکل اور تجربات سے کتنے ہی ایسے نفع دینے والے انجیکشن اور دوائیں ہیں جو کہ سانپ وغیرہ کے زہر سے تیار کئے جاتے ہیں سبحان اللہ وہ سب عیبوں سے پاک ہے جس نے ان امور جو ظاہری طور پر نقصان دہ ہیں انہیں نافع بنایا ہے، پھر بہت سے نقصان دہ حیوانات کی خوراک ہیں جس سے ماحول میں اور طبیعت میں توازن قائم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے بڑے احسن اور مضبوط طریقے سے تخلیق کی ہے۔

اور مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے سب افعال خیر ہیں اور اس کی کسی بھی مخلوق میں خالص شر نہیں ہے بلکہ کسی دوسری وجہ سے اس میں لازمی طور پر بہلائی اور خیر ہوگی اگرچہ وہ ہم میں سے کسی ایک پر مخفی رہے۔

مثلاً بلیس کی پیدائش حالانکہ وہ شر اور برائی کی جڑ ہے تو اس کے پیدا کرنے میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنی مخلوق کو آزماتا ہے تاکہ گنہگاروں میں سے اطاعت کرنے والوں کی پہچان ہو سکے اور کوتاہی کرنے والوں کا پتہ چل سکے اور جہنمیوں میں سے جنتیوں کی تمیز ہو سکے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قوت ایمان اور دینی بصیرت عطا فرمائے۔

اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرے۔

واللہ اعلم۔